



سوال

(414) عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے تو تحیۃ المسجد (بخ

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر بلا عذریا بعد عید کی نماز مسجد میں پڑھی جائے تو تحیۃ المسجد (دو رکعتیں) نماز عید سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ (ماسٹر عبدالرؤف)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بے عذریا بعد عید کی نماز مسجد میں پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و حکم: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)) [2] ”جب تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھا کرو۔“ [ثابت اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔

۲۹ ۱۲ ۱۴۲۳ھ

2. بخاری کتاب الصلاة باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين، مسلم صلاة المسافرين باب استحباب تحية المسجد بركعتين

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 348

محدث فتویٰ